

محمد مجتبیٰ نام رکھنا کیسا ہے؟

مجیب: مولانا محمد سجاد عطاری مدنی

فتویٰ نمبر: WAT-1870

تاریخ اجراء: 15 محرم الحرام 1445ھ / 03 اگست 2023ء

دارالافتاء اہلسنت (دعوت اسلامی)

سوال

میرا سوال یہ ہے کہ محمد مجتبیٰ نام رکھنا کیسا ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

محمد مجتبیٰ نام رکھنا جائز بلکہ بہتر ہے، کیونکہ مجتبیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھے نام رکھنے کی ترغیب احادیث میں بھی آئی ہے، لہذا ان احادیث پر عمل کرنے کی نیت سے بھی یہ نام رکھیں، تاکہ احادیث پر عمل کرنے کی برکت بھی حاصل ہو۔

چنانچہ اچھے نام رکھنے کی ترغیب کے متعلق سنن ابوداؤد میں حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”أنکم تدعون یوم القیامة بأسمائکم وأسماء آبائکم، فأحسنوا أسماءکم“ ترجمہ: قیامت کے دن تم اپنے ناموں اور اپنے آباء کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، اس لئے اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ (سنن ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی تغییر الاسماء، رقم: 4948، ص 1250، دار ابن کثیر، بیروت)

کنز العمال شریف کی حدیث میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے: ”حق الولد علی والدہ أن یحسن إسمه ویحسن موضعه ویحسن أدبه“ ترجمہ: اولاد کا باپ پر یہ حق ہے کہ باپ ان کا اچھا نام رکھے، انہیں اچھی جگہ رکھے اور اچھا ادب سکھائے۔ (کنز العمال، کتاب النکاح، ج 16، رقم: 45185، ص 173، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

بہار شریعت میں ہے: ”محمد بہت پیارا نام ہے اس نام کی بڑی تعریف حدیثوں میں آئی ہے اگر تصغیر کا اندیشہ نہ ہو تو یہ نام رکھا جائے اور ایک صورت یہ ہے کہ عقیقہ (کرتے وقت) کا یہ نام ہو اور پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام تجویز کر لیا

جائے اور ہندوستان میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک شخص کے کئی نام ہوتے ہیں اس صورت میں نام کی برکت بھی ہوگی اور تصغیر سے بھی بچ جائیں گے۔ (بہار شریعت، حصہ 15، ص 356، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



Darul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)



www.daruliftaahlesunnat.net



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



feedback@daruliftaahlesunnat.net